



ایک کتا کنویں کی منڈیر کے گرد چکر لگا رہا تھا اور قریب تھا کے پیاس کی شدت سے مر جائے کہ اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا اس نے اپنا موز اتارا اور اس سے کنویں سے پانی نکال کر اسے پلا دیا اسے اس کے اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا گیا

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ایک آدمی راستے میں چلا جا رہا تھا کہ اسے پیاس نے ستایا اسے ایک کنواں دکھائی دیا اور تو وہ اس میں اترتا اور پانی پیا جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا نپتے ہوئے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے کیونکہ اسے شدید پیاس لگی ہوئی تھی اس آدمی نے سوچا کہ اس کتے کو بھی اس طرح پیاس لگی ہے جیسے مجھے پیاس لگی تھی لہذا وہ پھر کنویں میں اترتا، اپنے موز کو پانی سے بھرا، اسے اپنے منہ سے تھاما اور باہر آ کر کتے کو پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کا صلہ دیا اور اسے بخش دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا جانوروں کی وجہ سے بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ہر تر کلیجہ (زندہ چیز) کی وجہ سے اجر و ثواب ہے ایک اور روایت میں ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ نے (اس کے اس فعل کی قدر دانی میں) اسے صلہ دیتے ہوئے بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا“ ایک اور روایت میں ہے کہ: ”ایک کتا کنویں کی منڈیر کے گرد چکر لگا رہا تھا اور قریب تھا کہ پیاس کی شدت سے مر جائے کہ اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا اس نے اپنا موز اتارا اور اس سے کنویں سے پانی نکال کر اسے پلا دیا اسے اس کے اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا گیا“

[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے - متفق علیہ]

ایک شخص سفر کرتا ہوا راستے میں جا رہا تھا کہ اسے پیاس لگی اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانی پیا اور یوں اس کی پیاس ختم ہوئی جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے گیلی مٹی کو کھا رہا ہے تاکہ اس میں موجود پانی کو چوس سکے اس پر اس آدمی نے کہا کہ: اللہ کی قسم! اس کتے کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی وہ کنویں میں داخل ہوا، اپنا موز پانی سے بھرا، اسے اپنے منہ سے تھاما اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اوپر چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ کنویں سے باہر آ کر اس نے کتے کو پانی پلا دیا جب وہ کتے کو پانی پلا چکا تو اللہ نے اس کے اس فعل کو پسند فرمایا اور اس کے بدلے میں اس کی بخشش کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دیا نبی ﷺ نے صحابہ کرام کو جب یہ حدیث سنائی تو انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ: اے اللہ کے رسول! کیا چوپایوں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ یعنی کیا یہ بھی اجر و ثواب کا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا: ہر تر کلیجہ کے ساتھ نیکی کرنے میں اجر ہے یعنی ہر تر کلیجہ کو سیراب کرنے میں اجر ملتا ہے کلیجہ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیوں کہ اگر پانی نہ ہوتا تو یہ سوکھ جاتا اور جاندار ہلاک ہو جاتا اور ایک روایت میں ہے: بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کے مارے کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، لیکن اس کی پانی تک رسائی ممکن نہیں ہوئی، چنانچہ اس عورت نے اپنا موز نکالا اسے پانی سے بھرا اور کتے کو پلا دیا لہذا اس عمل کے بدلے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

